

ROOTWORDS OF SURAH SABA 1-14

يَلِجُ	يَعْرُجُ	يَعْرُبُ	مِثْقَالُ	أَصْغَرُ
و ل ج	ع ر ج	ع ز ب	ث ق ل	ص غ ر
داخل ہوتا ہے	چڑھتا ہے	غائب / چھپی ہوئی	برابر	چھوٹی
سَعَوًا	رَجَزٍ	نَدْلُكُمْ	مُرْقُومٌ	نَخْسِيفٌ
س ع ي	ر ج ز	د ل ل	م ز ق	خ س ف
جنہوں نے کوشش کی	بدترین	ہم تمہیں بتائیں	تم ریزہ ریزہ کر دیئے جاؤ گے	ہم دھنسا دیں
نُسْقِطُ	كِسْفًا	مَيْبٍ	أَوْبِي	الَّتَا
س ق ط	ك س ف	ن و ب	أ و ب	ل ي ن
ہم گرا دیں	ٹکڑا	رجوع کرنے والے	رجوع کرو	نرم کر دیا، ہم نے
الْحَدِيدَ	سَابِغَاتٍ	السَّرْدِ	غُدُوها	رَوَاحِهَا
ح د د	س ب غ	س ر د	غ د و	ر و ح
لوہا	کشادہ زرہیں	کڑیوں کے جوڑنے	اس کا صبح کا سفر	اس کا شام کا سفر
أَسْلَنًا	الْقَطْرِ	يَنْعُ	مَحَارِبٍ	تَمَائِيلٍ
س ي ل	ق ط ر	ز ي غ	ح ر ب	م ث ل
ہم نے بہا دیا	تانے کا	سرتابی کرے گا / پھرے گا	قلعے	تصویریں / مجسمے

دَلَّهْم	رَاسِيَاتٍ	قُدُورٍ	كَالْجَوَابِ	جِفَانٍ
دل ل	ر س و	ق د ر	ج ب ي	ج ف ن
ان کو خبر دی	گڑھی ہوئی / جھی ہوئی	دیکھیں	جیسے تالاب	لگن
			خَرَّ	مِنْسَاتُهُ
			خ ر ر	ن س أ
			گر پڑا	اس کے عصا کو